

لدى ظرف مكان

Adverb of place

لدى (پاس، طرف) یہ ظرف مکان ہے، اور ظرف مکان **عند** کا ہم معنی ہے۔ اس کے آخر میں الف ہوتی ہے۔

Lada is a Zarf (adverb of place) and has the same meaning as "عند" zarf (adverb of place).

﴿إِذْ أَلْقُوا لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ﴾ (غافر: 18)

جب کہ غم کے مارے کلیجے منہ کو آرہے ہوں گے۔

When hearts are at the throats,

اگر **لدى** کسی ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس کا الف **ی** میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

When lada mudaaf elyhe is a pronoun then alif of lada changes to "ya" .

﴿هُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (ق: 35)

انہیں جو کچھ وہ چاہیں گے وہاں ملے گا اور ہمارے پاس اور بھی زیادہ ہے۔

They will have whatever they wish therein, and with Us is more.